



اے بلال! نماز قائم کرو، اس کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ

سالم بن ابو جعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: کاش میں نماز پڑھتا اور راحت حاصل کرتا، تو صحابہ نے ایک طرح سے ان کی بات کو برا جانا لیا، لہذا اس نے بتایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے: "اے بلال! نماز قائم کرو، اس کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ" [صحیح] [اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے]

ایک صحابی نے کہا: کاش میں نماز پڑھتا اور راحت حاصل کرتا، تو ان کے پاس کے لوگوں نے ایک طرح سے ان کی اس بات کو برا جانا، لہذا انہوں نے بتایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا: اے بلال! نماز کے لیے اذان دو اور جماعت کھڑی کرو، تاکہ تم اس کے ذریعے راحت حاصل کریں۔ ایسا اس لیے کہ نماز میں اللہ سے سرگوشیاں ہوتی ہیں اور اس سے قلب و روح کو راحت ملتی ہے۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/65095>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

